





یونان سے پناہ گزینوں کے لئے سفری کاغذات



پناہ گزینوں کے سفری کاغذات (جس کو جنیوا کے ۱۹۵۱ کے کنونشن کے تحت سفر نامہ یا جنیوا پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے) ایک سفر کا اجازت نامہ ہے جو اس ملک کی طرف سے جس میں کہ پناہ گزین مقیم ہیں، کسی بھی پناہ گزین کو جاری کیا جاتا ہے۔ اس اجازت نامے کی بدولت پناہ گزین اس ملک سے اندر اور بہار آ اور جا سکتے ہیں۔ عام طور پر پناہ گزینوں کو اپنے اصلی ملک سے پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہوتی لہذا ان کو بین الاقوامی سفر کے لئے پاسپورٹ یا اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ۱۴۵ (145) ممالک جو ۱۹۵۱ کے کنونشن کا حصہ تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کے یہ اجازت نامہ جڑے کریں جو ان کے ملک میں پناہ گزین کا قانونی درجہ رکھتے ہیں۔ وہ پناہ گزین جن کے پاس یہ سفر نامہ یا پاسپورٹ ہو وہ کچھ ممالک میں بغیر ویزا کا آمدورفت کر سکتے ہیں جو کے عام طور پر ان ۱۴۵ (145) ممالک میں شامل تھے جو ۱۹۵۱ کے کنونشن کو مانتے ہیں اور اس کا حصہ ہیں۔



وہ افراد جن کو یونان میں پناہ گزین ہونے کا درجہ مل چکا ہے وہ ان سفری کاغذات، اجازت نامہ یا پاسپورٹ کے لئے، اپنے پناہ گزین دفتر میں درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی ساری معلومات آپ کو پناہ گزین کا درجہ حاصل کرنے کے بعد دی جائیں گی۔ ذیلی ادارہ تحفظ کے تحت حفاظت کے حقدار افراد بھی یہ اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے اصلی ملک سے پاسپورٹ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ ان سفری کاغذات کی مدد سے آپ یورپین ممالک میں تین سے چھ ماہ تک قیام کر سکتے ہیں۔

ان کے علاوہ یورپین ممالک کی طرف سے کچھ اور شرائط بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ درج ذیل انٹرنیٹ لنک 2014 کا ہے لہذا بہتر ہوگا کہ آپ سفر پی جانے سے پہلے اس ملک کی تمام شرائط معلوم کر لیں۔

www.refucomm.com